

## يورپ ميں اسلامي طلباء كى انجمنوں كى يونين كے نام پيغام - 2024 / Jul / 7

آيت الله خامنه اي نے يورپ ميں اسلامي طلباء كى انجمنوں كى يونين كے 58 ويں اجلاس كے نام اپنے پيغام ميں اہم عالمي معاملات ميں ان طلباء كے كردار اور اثرات پر زور ديا اور كہا كہ وہ موجودہ پيچيدہ بين الاقوامي مسائل سے نمٹنے كے ليے حوصلہ، ايمان اور خود اعتمادي پر انحصار كريں۔

ربر معظم انقلاب اسلامي كے پيغام كا متن حسب ذيل ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزيز طلباء! آپ كى اچھي طرح سے قائم اور معزز يونين، اپني مسلسل فعاليت كے ساتھ، ايک اميد افزا امر ہے۔ آپ كى استعداد كے مطابق اجتماعي موجودگي، آج كے پيچيدہ عالمي مسائل ميں اہم كردار ادا كر سكتي ہے۔ اہم معاملات ميں موثر ہونا كسي بھي دوسرے عنصر كے مقابلے ميں ارادے، ايمان اور كاركنوں كى خود اعتمادي پر زيادہ انحصار كرتا ہے، اور يہ قيمتي اثاثہ، خدا كا شكر ہے، آپ، مومن اور انقلابي ايراني نوجوانوں ميں موجود ہے۔

آپ اہم مسائل اور دنيا كے تازہ اور پرانے زخموں سے واقف ہيں۔ ان ميں تازہ ترين سانحہ غزہ كا بے مثال سانحہ ہے۔ ان ميں مغرب، مغربي سياست دانوں اور مغربي تہذيب كى اخلاقي، سياسي اور سماجي خامياں نماياں ہيں۔ سب سے زيادہ سبق آموز بات لبرل جمہوريت كے حاميوں كى آزادي اظہار كى پاسداري كرنے ميں ناكامي اور معاشي اور سماجي عدل و انصاف كے مسائل سے ان كى مجرمانہ غفلت ہے۔ بڑے مظاہروں كى كمزور ليكن اميد افزا چنگھاري، خاص طور پر امريكہ اور يورپ كے طلباء ميں، بھي ايک اہم حاليہ معاملہ ہے۔ مغربي ايشيا كا خطہ اور ہمارے وطن عزيز كو بھي بے شمار چھوٹے بڑے مسائل كا سامنا ہے۔ يہ سب امور آپ كى يونين جيسي تنظيموں كے ليے سوچ، كام اور اقدام كے ليے بنياد فراہم كرتے ہيں۔

ميں اللہ تعاليٰ سے آپ كى كاميابي كے ليے دعا گو ہوں۔

سید علی خامنه اي

6 جولائی 2024